

## برامپٹن 8 مارچ کو انٹرنیشنل ومنز ڈے ورچوئل طور پر منائے گا

برامپٹن، آن (3 مارچ 2021) – سٹی آف برامپٹن بروز پیر، 8 مارچ کو ورچوئل طور پر انٹرنیشنل ومنز ڈے منائے گا، جس میں عالمی اور مقامی درجات پر اتحاد، عکاسی، وکالت اور عمل کو نمایاں کرنے کے لیے ایک پورے دن کی کانفرنس شامل ہو گی۔

برامپٹن کی اپنی کرسٹینا ہاورن، ٹورانٹو میں سٹی نیوز کی ایک ایوارڈ یافتہ صحافی، اس تقریب کی میزبانی کریں گی، جو صبح 8 بجے ورچوئل نیٹ ورکنگ کے ساتھ شروع ہو گی، جس کے بعد انڈیجینس اکنالجمنٹ اور مسکواسین ایگنیو کی جانب سے ڈرمنگ کی ایک تقریب ہو گی۔ برامپٹن کیلینڈر کا زونٹا کلب اس کانفرنس کی پیشکش میں سٹی آف برامپٹن کا کمیونٹی شراکت دار ہے۔ پورے دن کی آن لائن کانفرنس کے لیے رجسٹر ہونے اور ورچوئل مارکیٹ میں شرکت کرنے کے لیے، [یہاں](#) کلک کریں۔ کانفرنس کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں:

- کلیدی مقرر اولونیک کی ایڈیلی، برامپٹن سے تعلق رکھنے والی اداکارہ اور ورکن مامز میں نظر آنے والی مشہور شخصیت، ایک سیاہ فام کینیڈین خاتون کے طور پر اداکاری کی مشکل صنعت میں داخل ہونے کے بارے میں بات کریں گی
- شیریں ہومز، ایک ٹھیکے دار، ٹیلیویژن میزبان اور پیشوں میں خواتین کے لیے سفیر، مردوں کے غلبے والے پیشوں کی صنعتوں میں خواتین کے ابھرنے پر بات کریں گی
- ڈاکٹر فریچہ خان اور نرس فلز اوزسمر عالمی وباء کے دوران زندگی کے متعلق ایک کھلی گفتگو کریں گی۔
- ماہر نفسیات ڈاکٹر اریبہ عدنان خواتین کی ہمت و حوصلے اور ہماری ذہنی صحت پر اثرات کے بارے میں بات کریں گی
- کھانے کے وقت کے دوران ورکشاپس برائے: جنسی انصاف؛ تعلیم، جوانی اور نوجوان؛ مائیں اور پرورش؛ مذہب، تنوع اور ثقافت کی حامل خواتین؛ ذہن، روج، تندرستی اور صحت؛ مشکلات کی شکار خواتین اور ٹیکنالوجی میں خواتین۔
- برامپٹن کی اپنی رابرٹا بٹاگلیا، امیریکاز گاٹ ٹیلنٹ کی فائنلسٹ، ایک کینیڈین-نائیجیریئن فوک، کنٹری اور R&B گلوکارہ؛ اور R&B/پاپ فنکار امیراہ خان کی جانب سے فن کے مظاہرے
- سنگدھا ملک کی میزبانی میں مراقبے کا وقت اور برامپٹن میں اورا ہاؤس کی مالکہ، لیزا کلارک کی جانب سے ایک ورچوئل سٹریچ اور ری فوکس۔

برامپٹن انٹرپرائیوئر سنٹر (BEC) انٹرنیشنل ومنز ڈے کے ساتھ دو ورکشاپس کا انعقاد کرے گا:

### جمعہ، 5 مارچ، دن 12 – 11 بجے

BEC پیش کرتا ہے ڈاکٹر روبین ہینلے ڈیفوء، جو ذاتی بہبود کے بارے میں بات کرتی ہیں: زندگی اور کام کو متوازن کرنا اور لطف اندوز ہونا۔ شرکاء ذاتی اقدار کے شناخت کاروں کے بارے میں جانیں گے اور ایسی تکنیکیں سیکھیں گے، جو ہمارے کام کو مقصد اور ذاتی اقدار کے ساتھ ہموار کر کے صحت بخش عادات کو فروغ دیں گی اور گہری خوشی پیدا کریں گی۔ رجسٹر ہونے کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

### 8 مارچ، دن 12 – 11 بجے

BEC پیش کرتا ہے کیفینٹ اینڈ سیلیبریٹ - بڑھنے کے ذہن والی خواتین انٹرپرائیوئرز اور کاروباروں کی مالکان کے لیے ملنے جلنے کے لیے ایک سماجی گھنٹہ۔ شرکاء اس حوالے سے عکاسی کر سکتی ہیں کہ آپ کے لیے کاروبار میں ایک خاتون ہونے کا کیا مطلب ہے؛ پرلطف، معاون بریک آؤٹس میں مل جل سکتی ہیں؛ اور "عمومی کاروبار" کا تصور نو کرنے کے لیے اپنے خیالات شریک کر سکتی ہیں۔ رجسٹر ہونے کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

### اقتباسات

خواتین کا عالمی دن خواتین کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کا ایک عالمی جشن ہے۔ اس دن پر بڑھتے ہوئے صنفی خلیج کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ خواتین کی کامیابیوں کا جشن منانے اور خواتین کی مساوات کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تنظیموں اور گروپوں کے جمع ہونے سے اس حوالے سے بڑی سرگرمیوں کا ثبوت ملتا ہے۔"

"مکمل جنسی مساوات کے حصول کے لیے نظام میں تبدیلیاں کرنے کی ہماری تحریک اور عزم کو تسلیم کرنے کے لیے ہر سال 8 مارچ کو منایا جانے والا، انٹرنیشنل وومنز ڈے سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ ہم خاص طور پر اپنی صف اول پر موجود خواتین کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، جو اس عالمی وباء کے دوران اپنا کردار نبھانا جاری ہیں۔"

- رووینہ سینٹوس وارٹز 1 اور 5 ریجنل کونسلر

"انٹرنیشنل وومنز ڈے ان خواتین کی طاقت اور مضبوطی کا جشن منانے کے لیے ہے، جو اس عالمی وباء میں صف اول پر رہی ہیں۔ یہ ان کئی ولولہ انگیز، معاون اور ترغیبی کہانیوں پر روشنی ڈالتا ہے، جو آخر کار ہمیں، بطور خواتین اور لڑکیاں، اپنی مکمل توانائیوں کو استعمال کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔"

- شارمین ولیمز، وارٹز 7 اور 8، سٹی کونسلر

"اگرچہ کہ موقع پر اجتماعات کووڈ-19 کی وجہ سے ممنوع ہیں، سٹی آف برامپٹن انٹرنیشنل وومنز ڈے کو ورچوئل طور پر منانے کے لیے ہر عزم ہے۔ یہ ہمارے لیے خواتین کی خدمات پر سوچنے اور پہچاننے اور اس کردار کی یاددہانی کروانے کا موقع ہے، جو ہم سب جنسی مساوات کو بڑھانے میں ادا کرتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)